

<sup>1</sup> In SHM, velocity at Extreme Position is:

- (a) Maximum (b) Minimum (c) Zero
- (d) Some time maximum some time minimum

<sup>2</sup> The equation of Hook's Law.

- (a)  $F = -kx$
- (b)  $k = \frac{-2F}{x}$
- (c)  $F = \frac{-1}{kx}$
- (d)  $F = \frac{-x}{k}$

<sup>3</sup> S.I unit of amplitude

- (a) Sec
- (b)  $H_2$
- (c) m
- (d) Cm

<sup>4</sup> If length of simple pendulum on Earth is 1 in then its time period is.

- (a)  $\sqrt{2}$
- (b)  $\frac{T}{\sqrt{2}}$
- (c)  $2T$
- (d)  $\frac{T}{2}$

<sup>5</sup> The example of shock absorber of the vehicles are:

- (a) SHM
- (b) Vibratory motion
- (c) Damped motion
- (d) Linear motion

<sup>6</sup> Radio waves are:

- (a) Longitudinal waves
- (b) Transverse waves
- (c) Electromagnetic waves
- (d) All of these

<sup>7</sup> In a vacuum, all electromagnetic waves have the same:

- (a) speed
- (b) frequency
- (c) amplitude
- (d) wavelength

<sup>8</sup> If the speed of a wave is  $340 \text{ ms}^{-1}$  and wavelength is 0.5 m, then frequency will be.

- (a) 170 Hz
- (b) 340 Hz
- (c) 3400 Hz
- (d) 680 Hz

سمپل ہارمونک موشن میں انتہائی پوزیشن پر ولاستی ہوتی ہے: <sup>1</sup>

- (a) کم سے کم
- (b) زیادہ سے زیادہ
- (c) صفر
- (d) کبھی زیادہ کبھی کم

بک کے قانون کی مساوات ہے۔ <sup>2</sup>

- (a)  $F = -kx$
- (b)  $k = \frac{-2F}{x}$
- (c)  $F = \frac{-1}{kx}$
- (d)  $F = \frac{-x}{k}$

ایمپلیٹیوڈ کا یونٹ ہے۔ <sup>3</sup>

- (a) Sec
- (b)  $H_2$
- (c) m
- (d) Cm

اگر سمپل پنڈولم کی لمبائی کو دو گناہ کر دیں تو اس کا تمام پریڈ ہو جائیگا۔ <sup>4</sup>

- (a)  $\sqrt{2}$
- (b)  $\frac{T}{\sqrt{2}}$
- (c)  $2T$
- (d)  $\frac{T}{2}$

گاڑیوں کے شاک ابزار بزرگی مثال ہے۔ <sup>5</sup>

- (a) سمپل ہارمونک موشن
- (b) واپسیری موشن
- (c) ڈیمپڈ موشن
- (d) لینیر موشن

ریڈیو ویوز ہیں: <sup>6</sup>

- (a) ٹرانسورس ویوز
- (b) لوگیٹیوڈن ویوز
- (c) الکترو میکنیک ویوز
- (d) یتمام

ویکویم میں تمام الکترو میکنیک ویوز ایک جیسی رکھتی ہیں۔ <sup>7</sup>

- (a) سپید
- (b) فریکوپنی
- (c) ایمپلیٹیوڈ
- (d) ویولینچن

اگر ایک ویکی سپید  $340 \text{ ms}^{-1}$  ہو اور ولنگٹھ 0.5 m ہو تو اسکی فریکوئنسی ہوگی۔ <sup>8</sup>

- (a) 170 Hz
- (b) 340 Hz
- (c) 3400 Hz
- (d) 680 Hz